

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِهِ نَسْتَعِیْنُ



رفع العلم برفع العلماء

گزشتہ دنوں کے بعد دیگرے تیزی کے ساتھ تین صاحبان علم کا دنیا چھوڑ کر عقبی کو اختیار کر لینا جبکہ اہل دنیا کے نزدیک دنیا میں ابھی ان کی شدید ضرورت تھی ایک عظیم المیہ ہے، مگر جینا و مرنا کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں، اور یہ بھی خالق ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی کس مخلوق کو کتنا عرصہ زمین پر رکھ کر اس سے کام لینا ہے..... شمال مغربی سرحدی صوبہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد علماء کے خاندانوں کا اجڑ جانا، خانقاہوں کا تباہ کیا جانا، اہل علم و تقویٰ پر مظالم کا ڈھایا جانا، اور علمی خانوادوں کا بکھر جانا اس صدی کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے، حدیث شریف میں ہے:

..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثل العلماء

في الارض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر

والبحر فاذا انطمست النجوم اوشك ان تضل الهداة (رواه احمد)

کہ علماء کی مثال دنیا میں ایسے ہے جیسے آسمان میں ستارے، کہ ان سے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی لی جاتی ہے اور جب ستارے چھپ جاتے ہیں تو لوگوں کے بھٹک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے..... گزشتہ دنوں جن تین معروف اہل علم کا انتقال ہوا ان میں ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات حسرت آیات، اور شہادت بہت گہرے زخم چھوڑ گئی ہے جو جلد مندمل ہونے والے نہیں،..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

موت العالم ثلثة في الاسلام لاتسد ما اختلف الليل والنهار..... (کنز العمال)

حضور ﷺ نے فرمایا عالم کی موت سے اسلام میں سوراخ ہو جاتا ہے جو وقت کے گزرنے

سے پر نہیں ہوتا.....

راقم کے لئے یہ صدمہ تو بڑا ہی جائناہ ہے، کہ ان سے تعلق ان کے والد گرامی حضرت

علامہ مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا تھا اور وہی اس رابطے و تعلق کا شفیق و کریم ذریعہ

علم و فن میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ثانی نہیں۔ (صحبت ابو زرہ)